

# اوکٹاگونیکل تعارف

اس کروشے آلونگ کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ انگریزی زبان نہیں سمجھتے وہ بھی اس میں شامل ہو سکیں

یہ کروشے آلونگ اکتوبر دو ہزار بیس بروز جمعرات شروع ہوگا اور آٹھ ہفتوں میں مکمل ہوگا۔  
ہر حصہ جمعرات کے روز سات بجے شام برطانوی وقت کے مطابق شائع کیا جائے گا  
اس کا لنک آپ میری ویب سائٹ اور میرے فیس بک پیج [Helen's Hookaholics](https://www.facebook.com/Helen'sHookaholics) سے حاصل کر سکتے ہیں۔

میری ویب سائٹ [www.crystalsandcrochet.com](http://www.crystalsandcrochet.com) پہ بنیادی ٹول برائے ترجمہ دیا گیا ہے، کسی بھی صفحے کے سیدھے ہاتھ کے کونے میں بنے جھنڈے پہ کلک کریں، اور اپنی ملک کے جھنڈے کو سلیکٹ کر کے اپنی زبان کا ترجمہ حاصل کریں۔



♥ اس نمونہ پہ کاپی رائٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔

نمونہ کے تراجم میری اجازت سے کئے گئے ہیں، اس نمونے / کروشے آلونگ کا کوئی بھی حصہ شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔  
آپ اس نمونے کی کاپی یا شیئر یا چھاپ نہیں سکتے نہ ہی میری تصاویر کو کسی اور فارمیٹ میں چھاپ سکتے ہیں۔

♥ آپ میری ویب سائٹ یا ریولری سٹور کی معلومات کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے استعمال کے لئے چھاپ سکتے ہیں، لیکن برائے مہربانی اس میں کچھ بھی تبدیل یا بدل نہیں سکتے نہ ہی شیئر کر سکتے ہیں۔

♥ برائے مہربانی میرا احترام اور محبت کیجیے جیسے کہ میں آپ کا کرتی ہوں۔ ♥



نمونے کو حاصل کرنے کے لئے پوسٹ کے نیچے کی طرف اور نمونہ کے جس حصے کی ضرورت ہے اسے وہاں سے حاصل کر لیں۔

نیچے کی طرف اشارہ کرتے تیر پہ کلک کریں۔ اپنی پسند کے ٹرم یا زبان کو سلیکٹ کر کہ اور باسکٹ میں ڈال لیں۔  
باسکٹ سے چیک اوٹ کریں اور اطمینان کر لیں کہ اگر آپ فری یا مہوار میمبر ہیں تو آپ نے سائن ان کیا ہے، یا اگر آپ بطور مہمان چیک اوٹ کر رہے ہیں تو اپنا ای میل پتہ ڈال دیں تاکہ نمونہ آپ کو ای میل کر دیا جائے، جب آپ چیک اوٹ کر رہے ہوں گے تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے سیدھے ہاتھ کی طرف لنک نظر آجائے گا جسکے نیچے لکیر ہوگی، اس سے آپ فوری طور پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔



ہم پورے سائز کا آٹھ کونوں والا کمبل یا بلینکٹ بنائیں گے

ڈیرا مور اور وول ویر ہاوس سے تین طرح کے پیک حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لنک میری ویب سائٹ پہ موجود ہیں

ہارمنی - سٹائل کرافٹ اسپیشل ڈبل نٹ ہم آہنگ نرم ہلکے رنگوں کا امتیاز ہیں  
یارن پیک میں شامل ہیں: کریم، پارچمینٹ، سائپرس، لنکن، ایپریکوٹ



پیس - سٹائل کرافٹ کے قدرتی کاٹن اور بیمبو کا خوبصورت امتیاز ہیں، اور سکون کا احساس  
دلانے والے رنگ ہیں -  
یارن پیک میں شامل ہیں: ایکرو، سرف، سی فوم، ویج وڈ، کورل، ایزیلیا، بٹر ملک



بیلینس - سٹائل کرافٹ اسپیشل ڈبل نٹ انگ جو قوس قزہ کے رنگوں کا خوبصورت امتیاز ہیں سلور  
یا چاندی رنگ کو بنیادی رنگ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔  
یارن پیک میں شامل ہیں: سلور، لپ اسٹک، پاؤڈر پنک، اسپانس، کلیمینٹائن، سائرون، لیمن، گرین،  
سپرنگ گرین، ایمپائر، ٹرکونز، لاپس، کلاوڈ بلیو، پروپر پریل، لیوینڈر۔



ہر چکر میں استعمال کئے گئے رنگوں کی تفصیل کا پی ڈی ایف اوکٹاگونیکل کی تعارفی پوسٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔

میں آپ کو اپنے پسند کے رنگ استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں آپ اپنے پسند کے یارن اور رنگ استعمال کریں اور میں  
انتظار کروں گی آپ کے پسند کے رنگوں سے بنے کمبل کو دیکھنے کا

اون یا یارن جو استعمال ہوا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے  
نارمل ڈبل نٹ یارن - # تین وزن - آٹھ پلائی - تقریباً چار ہزار اڑتالیس میٹرز - چار ہزار چار سو اٹھارہ گز - چار ایم ایم جی ہک -  
مکمل کمبل کا سائز: ایک سو ستر سینٹی میٹرز / سڑسٹھ انچ ہے

نیچرلز - تقریباً تین ہزار پانچ سو اٹھائیس میٹرز - تین ہزار آٹھ سو باون گز - تین اعشاریہ پانچ ایم ایم ای ہک  
مکمل کمبل کا سائز: ایک سو بیالیس سینٹی میٹرز / چھپن انچ -

آرن - ورسٹیڈ - دس پلائی - # چار وزن تقریباً - چار ہزار پانچ سو پچاس میٹرز - چار ہزار پانچ سو پچاس گز - پانچ ایم ایم آئی ہک  
مکمل کمبل کا سائز: ایک سو پچاسی سینٹی میٹرز / تہتر انچ -